

سلسلة حفظ الأحاديث

الأحاديث المنتقاة لطلاب العلم والمبتدئين

شرح أحاديث  
طالع مبتدئين

Selected Ahadees  
for Students & Beginners

حافظ ارشد شیعمری مدین فقہ

حَقْوَفُ الْأَصْبَعِ مَحْفُوظًا

©Copyright Reserved

حَافِظُ أَرْشَدْ شِعْرِيٌّ مَدِينَةُ مَدِينَةِ اللَّهِ

## Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A.;


Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyderabad, TS, INDIA.

+91 92906 21633 (WhatsApp only)

[www.abmqurannotes.com](http://www.abmqurannotes.com) | [www.askislampedia.com](http://www.askislampedia.com) | [www.askmadani.com](http://www.askmadani.com)

Free Online Islamic Encyclopedia



## مقدمة

**الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلٰى آلِهِ وَآلِحَّادِيْثِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ:**

دین اسلام کا مأخذ قرآن مجید اور صحیح احادیث ہیں۔ زیر نظر کتاب میں منتخب صحیح احادیث کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے، جو حفظ کے لیے سہل اور سمجھنے کے لیے اسہل ہے۔ الحمد للہ دین کی اہم اور بنیادی تعلیمات ان احادیث میں موجود ہیں، ان شاء اللہ ان کو سمجھنے کے بعد دین کا صحیح علم ذہنوں میں موجود ہو گا۔ فللہ الحمد

ان احادیث کا ترجمہ اردو اور انگریزی میں پیش کیا گیا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکا ترجمہ سلیمانی اور سہل رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اربعین و جامع العلوم والحكم کا ترجمہ شیخ ارشد بشیر مدنی سلمہ اللہ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ البتہ بلوغ المرام کا ترجمہ sunnah.com سے لیا گیا ہے ان شاء اللہ اس پر مزید محنت کر کے آسان ترجمہ کیا جائے گا۔

ان شاء اللہ مستقبل قریب میں طلبہ کے فہم و استعداد کے حساب سے مزید حذف و اضافہ کے ساتھ منتخب احادیث کا نیا مجموعہ پیش کیا جائے گا۔

دعا ہے اللہ اسے امت کے لیے نفع بخش بنائے اور دین کا صحیح فہم و ادراک نصیب فرمائے۔ آمين!

دعا گو

حافظ ارشد بشیر عمری مدنی سلمہ اللہ



ASKISLAMPEDIA  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia



## المستوى الاول Level - 1

Page - 1 -Book+5 صحیح احادیث

Page - 11 -Book+7 صحیح احادیث

Page - 19 -Book+9 صحیح احادیث

## المستوى الثاني Level - 2

المنتقاۃ من الأربعين النووية وجامع العلوم والحكم

Page - 27

الأحاديث المنتقاة لطلاب العلم والمبتدئين

المستوى الأول

Level - 1

**Selected Ahadees from  
+5 Book**



**Hadis No.1**

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Innamal a'maalu binniyyaat

"اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے" -

"Actions will be judged only by

intentions".

A'maal ka daaromadaar niyyato par hai.

Free Online Islamic Encyclopedia

(جیجی: 1)



Hadis:1

Hadis No.2

الدِّينُ النَّصِيحةُ

Addeenu an-naseehah

دینِ خیر خواہی کا نام ہے۔

The deen is naseehah

Deen khair-khwahi ka naam hai

(صحیح مسلم: 55۔ ترمذی: 1926۔ ابو داؤد: 4944)

Online Islamic Encyclopedia

Hadis:2

Hadis No.3

الظَّهُورُ شَرْطُ الإِيمَانِ

Attahooru shatrul eemaan

پاکی ایمان کا حصہ ہے۔

Purity is a part of faith

Paaki eemaan ka hissa hai

(صحیح مسلم: 223)

Hadis:3



Hadis No.4

الصَّلَاةُ نُورٌ

Assalaatu noor

نماز نور ہے۔

The salah is a light

Namaz Noor hai.

(صحیح مسلم: 223)

Hadis:4



## Hadis No.5

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

Almuslimu akhul muslim

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

A Muslim is a brother of another Muslim

Ek musalman dusre musalman ka bhai

hai

(بخاری: 2442 - مسلم: 2564)

Hadis:5



Hadis No.6

احْفَظْ لِسَانَكَ

Ehfaz lisaanak

اپنی زبان کی حفاظت کرو۔

Protect your Tongue

Apni zuban ki hifazat karo

(بخاری: 5376 - مسلم: 2022)

Hadis:6



**Hadis No.7**

لَا تَحَاسِدُوا

Laa tahaasadoo

آپس میں حسد نہ کرو

Do not be jealous of one another

Aapas me hasad na karo

(مسلم: 2559)

Hadis:7

Hadis No.8

لَا تَخْضَبْ

Laa taghzab

غصہ نہ کرو۔

Do not get angry

Ghussa na karo

(بخاری: 6116) PEDIA

GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

Hadis:8



## Hadis No.9

الْطِيَّرَةُ شِرْكٌ

At-tiyaratu shirkun

بدشگونی شرک ہے۔

Taking bad omen is Shirk (polytheism)

Badshuguni shirk hai

(سنن ابی داود: 3910)

Free Online Islamic Encyclopedia

Hadis:9



Hadis No.10

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ

Kullu bid'at in zalaalah

ہر بدعت گمراہی ہے۔

Every Innovation is Going Astray

Har bid'at gumrahi hai

(صحیح مسلم: 867)

Hadis:10



الاحاديث المختارة لطلاب العلم والمبتدئين  
المستوى الأول

**Level:1**

**Selected Ahadees from  
+7 Book**

**Hadis No. 1**

إِنَّ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

Ittaqillaaha haisumaa kunta

(سنن الترمذى: 1987، حجج)

جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔

Jaha kaheen ho Allaah se darte raho

Fear Allah wherever you are

Hadis:11

**Hadis No.2**

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

Ad-duaao huwal ibadah

(سنن ابن داود: 1479، سنن الترمذى: 2969، حجج ابن ماج: 3101 - حجج)

دعا عبادت ہے۔

Dua ibadat hai

worship Supplication (du'a) is itself

Hadis:12

**Hadis No.3**

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأُلْ اللَّهَ

Iza sa' alta fas-alillaaha

(صحیح البخاری: 7957، سنن الترمذی: 2516 - صحیح)

جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔

Jab maangna ho to Allah se maango

When you ask (for anything), ask it from Allah.

Hadis:13

**Hadis No.4**

مَنْ غَشَ فَلَيْسَ مِنَّا

Man ghash-sha falaisa minna

(سنن الترمذی: 1315، صحیح البخاری: 6406)

جود ٹو کا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

Jo dhoka de wo ham me se nahi

Whoever cheats, he is not one of us.

Hads:14

**Hadis No.5**

إِحْفَاظُ اللَّهِ يَحْفَظُكَ

Ihfazillaaha yahfazka

(سنن الترمذى: 2516، صحيح البامع: 7957)

اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔

Allah ke ahkaam ki hifazat karo Allah tumhari hifazat karega.

Be Mindful of Allah and he Will Protect You

Hadis:15

**Hadis No.6**

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Kullu ma'roofin sadaqah

(بخارى: 6021، مسلم: 1005)

ہر نیکی صدقہ ہے۔

Har neki sadqah hai

Every act of goodness is (considered as) Sadaqah.

Hadis:16

**Hadis No.7**

سَمِّ اللَّهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ

Sammillaaha wakul biyameenik

(بخاری: 5376، مسلم: 2022)

بِسْمِ اللَّهِ كَهُو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔

Bismillah kaho aur daaein haath se khao

Mention the Name of Allaah and eat with your right hand.

Hadis:17

**Hadis No.8**

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

Likulli daa-in dawaa-un

(مسلم: 2204)

ہر بیماری کا علاج ہے۔

Har bimaari ka ilaaj hai

There is a cure for every disease.

Hadis:18

**Hadis No.9**

اتَّقِ دُعَوَةَ الْمُظْلومِ

(بخاری: 2448)

مظلوم کی بد دعا سے بچو۔

Mazloom ki baddua se bacho

Be afraid, from the curse of the oppressed.

Hadis:19

**Hadis No.10**

أَلْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقِ

Albirru husnul khuluqi

(مسلم: 2553)

نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔

Neki acche akhlaaq ka naam hai

Virtue is noble behavior.

Hadis:20

**Hadis No.11**

**تَهَادُّ وَاتَّحَابُ**

(صحیح البخاری: 3004)

ایک دوسرے کو تخفہ دو کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔

Ek doosre ko tohfa do ke isse muhabbat paida hoti hai

Give presents to each other, this will increase

love for each other.

Hadis:21

**Hadis No.12**

**لَا تَسْبُّو أَصْحَابِي**

Laa tasubbu as-haab'i

(صحیح مسلم: 2540، صحیح البخاری: 3673)

میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔

Mere sahaba ko gaali na do

Do not revile my Companions.

Hadis:22

**Hadis No.13**

لَا تَمْنَوُ الْمَوْتَ

Laa tamannawul maut

موت کی تمنامت کرو۔ (سنن الترمذی: 2483)

Maut ki tamanna mat karo

None of you should wish for death.

Hadis:23

**Hadis No.14**

الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

Al-majalisu bil amaanah  
Free Online Islamic Encyclopedia

مجلسین امانت ہیں۔ (صحیح البخاری: 6678)

Majlisein amanat hain.

Meetings are confidential.

Hadis:24

Hadis No15

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Afshus salaama bainakum

اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ (مسلم: 54)

Apne darmiyan salam ko aam karo

Promote greeting (salaam) amongst you.

Hadis:25

ASKISLAMPEDIA  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION  
Free Online Islamic Encyclopedia

الاحاديث المختارة لطلاب العلم والمبتدئين

المستوى الأول

**Level -1**

**Selected Ahadees from  
+9 Book**

**Hadis No.1**

**مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ**

Malla yarham laa yurham

جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (بخاری: 6013)

Jo doosro par rahem nahi karta us par rahem nahi kiya jaata.

He, who is not merciful to others, will not be  
treated mercifully.

Hadis:26

**Hadis No.2**

**الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ**

Al-hayaau shu'batun minal eemaan

حیاداری ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (بخاری: 9، مسلم: 35)

Haya daari eemaan ki ek shaakh hai.

The modesty is a branch of Eemaan.

Hadis:27

**Hadis No.3**

**خالق النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ**

Khaaliqin naasa bikhuluqin hasanin

(صحیح الترمذی: 3160، صحیح البخاری: 97، صحیح الترمذی: 1987)

لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

Logo ke saath acche akhlaaq se pesh aao.

And behave decently towards people.

Hadis:28

**Hadis No.4**

**قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمْ**

Qul aamantu billaahi summastaqim

(صحیح البخاری: 4395، مسلم: 38)

کہو میں اللہ پر ایمان لا یا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔

Kaho mai Allaah par eemaan laaya phir us par dat jaaoo.

Say I believe in Allaah and then be steadfast.

Hadis:29

**Hadis No.5**

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Kullu muskirin haraamun

ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ (بخاری: 7172، مسلم: 2002)

Har nasha aawur cheez haram hai.

Every intoxicant is unlawful.

Hadis:30

**Hadis No.6**

مَنْ عَلَقَ تَبِيِّنَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

Man 'allaqa tameematan faqad ashraf

Free Online Islamic Encyclopedia

جس نے توعید لٹکائی اس نے شرک کیا۔

(السلسلة الصحيحة: 492، صحیح البخاری: 6394)

Jisne taweez latkaaee usne shirk kiya.

Whoever hangs an amulet has committed shirk.

Hadis:31

**Hadis No.7**

مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ

Maa naqasat sadaqatun min maal

صدقة وخيرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ (مسلم: 2588)

Sadqa wa khairaat se maal me kami nahi hoti.

Wealth does not diminish by giving Sadaqah

(charity)

Hadis32

**Hadis No.8**

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum

(سنن أبي داود: 4031) Free Online Encyclopedia

جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔

Jo kisi qaum ki mushabahat ikhtiyaar kare wo unhi me se hai.

He who imitates any people (Disbelievers) is

considered to be one of them.

Hadis:33

**Hadis No.9**

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَنَّاثٌ

Laa yadkhulul jannata qattaat

چغناور جنت میں نہیں جائے گا۔ (بخاری: 6056، مسلم: 105)

Choghalkhor jannat me nahi jaaega

A Gossiper will not enter Paradise.

Hadis:34

**Hadis No.10**

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

Yusallimus sagheeru 'alal kabeer

Free Online Islamic Encyclopedia  
(بخاری: 6234)

چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

Chota bade ko salaam kare.

The young should greet the old.

Hadis:35

**Hadis No.11**

تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Ta'awwazoo billaahi min 'azabil qabr

عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ (مسلم: 2867)

Azaab e qabr se Allah ki panaah maango.

Seek refuge with Allah from the torment of  
the grave.

Hadis:36

**Hadis No.12**

لَا تَأْتُوا الْكُهَّاَنَ

کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ (مسلم: 537)

Kaahino ke paas mat jaaao.

Don't visit Kahins (soothsayers)

Hadis:37

**Hadis No.13**

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحِبَّ

Al-mar'u ma'a man ahabba

(بخاری: 6169)

آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت رکھے گا۔

Aadmi usi ke saath hoga jis se wo muhabbat rakhega.

The man will be with those whom he loves.

Hadis:38

**Hadis No.13**

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَا آيَةً

Ballighoo 'anni walau aayah

(بخاری: 3464، ترمذی: 2669)

میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔

Meri jaanib se logo ko pahuncha do agarache ek aayat hi ho.

Convey from me even an Ayah of the Qur'an.

Hadis:39

**Hadis No.14**

أَلَّدَالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَا عَلَيْهِ

Ad-daallu 'alal Khairi kafa' ilahi

(صحیح الترمذی: 2670)

نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔

Neki ki taraf rahnumaee karne waala bhi neki karne waale ki maanind hai.

Whoever leads to good, he is like the one who does it.

Hadis:40

**Hadis No.15**

إِذَا غَضِبَ أَحَدٌ كُمْ فَلَيَسْكُنْ

Iza ghaziba ahadukum fal yaskut

جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ (صحیح البخاری: 4027)

When one of you is angry, he should be silent.

jab tum me se kisi ko ghussa aae to wo

khamoosh hojaae.

Hadis:41

المستوى الثاني

المنتقاة من الأربعين النورية  
وجامع العلوم والحكم

## Hadis No.1

((عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَيُغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ) رَوَاهُ البَحْرَانِيُّ وَمُسْلِمٌ

(بخاری: 1، مسلم: 1907)

It is narrated on the authority of Amirul Mu'min, Abu Hafs 'Umar bin al-Khattab (may Allah be pleased with him) who said: I heard the Messenger of Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) say: "Actions are (judged) by motives (niyyah), so each man will have what he intended. Thus, he whose migration (hijrah) was to Allah and His Messenger, his migration is to Allah and His Messenger; but he whose migration was for some worldly thing he might gain, or for a wife he might marry, his migration is to that for which he migrated." [Bukhari & Muslim]

عمر بن خطاب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماء

رہے تھے کہ: "تمام اعمال ((کی قبولیت) کی بنیاد نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جیسی اس کی نیت ہے۔ سو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کیلئے ہی ہے (مقبول ہے) اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کیلئے ہو تو اس کی ہجرت اس کے مقصد کے مطابق ہے (آخرت میں اجر سے محروم رہے گا)

Ameerul Mumineen Umar bin khattaab (رضي الله عنه) se riwayat hai ke Main ne Allah ke Rasool (صلوات الله عليه وآله وسليمه) ko farmate hue suna ke: beshak a'maal ka daaromadaar niyyato par hai aur har ek ke liye wahi kuch hai jiski usne niyyat ki, jiski hijrat Allah aur uske rasool ke liye hai aur jiski hijrat dunya ke liye hui taake wo use paale ya kisi aurat ke liye hui ke wo usse nikah kare to uski hijrat usi ke liye hai jiske liye usne hijrat ki.

Hadis:42



## Hadis No.2

((عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيْاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرُفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْدَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقْيِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتَيِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحْجَجَ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتُ. فَعَجِبَنَا لَهُ يُسَأَّلُهُ وَيُصَدِّقُهُ أَقَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَبْرِهِ وَشَرِّهِ . قَالَ: صَدَقْتُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنِ السَّائِلِ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهِ؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةَ رَبْنَهَا، وَأَنْ تَرِي الْحُفَّاةَ الْعَرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ . ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَكِشَنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟ قَاتَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ )) رواه مسلم

(جع مسلم: 8)

Also on the authority of `Umar (may Allah be pleased with him) who said: While we were one day sitting with the Messenger of Allah (ﷺ) there appeared before us a man dressed in extremely white clothes and with very black hair. No traces of journeying were visible on him, and none of us knew him. He sat down close by the Prophet (ﷺ) rested his knees against the knees of the Prophet (ﷺ) and placed his palms over his thighs, and said: "O Muhammad! Inform me about Islam." The Messenger of Allah (ﷺ) replied: "Islam is that you should testify that there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is His Messenger (ﷺ), that you should perform salah (ritual prayer), pay the zakah, fast during Ramadan, and perform Hajj (pilgrimage) to the House (the Ka`bah at Makkah), if you can find a way to it (or find the means for making the journey to it)." He said: "You have spoken the truth." We were astonished at his thus questioning him (ﷺ) and then telling him that he was

right, but he went on to say, "Inform me about Iman (faith)." He (the Prophet) answered, "It is that you believe in Allah and His angels and His Books and His Messengers and in the Last Day, and in fate (qadar), both in its good and in its evil aspects." He said, "You have spoken the truth." Then he (the man) said, "Inform me about Ihsan." He (the Prophet) answered, "It is that you should serve Allah as though you could see Him, for though you cannot see Him yet He sees you." He said, "Inform me about the Hour." He (the Prophet) said, "About that the one questioned knows no more than the questioner." So he said, "Well, inform me about its signs." He said, "They are that the slave-girl will give birth to her mistress and that you will see the barefooted ones, the naked, the destitute, the herdsmen of the sheep (competing with each other) in raising lofty buildings." Thereupon the man went off. I waited a while, and then he (the Prophet) said, "O 'Umar, do you know who that questioner was?" I replied, "Allah and His Messenger know better." He said, "That was Jibril. He came to teach you your religion." [Muslim]

عمر بن الخطاب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت کالے تھے۔ سفر کے علامات نمایاں نہ تھے اور کوئی ہم میں سے ان کو پہچانتا نہ تھا، وہ نبی ﷺ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اپنے گھٹنے نبی ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر پھر کہا: اے محمد ﷺ! آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ" اس کے رسول ہیں اور نماز (صلوة) قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ "وہ بولا: آپ نے سچ کہا، ہم کو تجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے پھر خود ہی کہتا ہے کہ سچ کہا، پھر وہ شخص بولا: آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "کہ تو تصدیق (قبولیت اور اطاعت والی تصدیق) کرے اور ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تو اس بات پر تصدیق کرے اور ایمان لائے تقدیر کے برے اور اچھے اثرات پر،" وہ شخص بولا: آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے پوچھا: آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔" اگر اسکو دیکھنے کے تصور کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے تو یہ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا: آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہو گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جس سے چھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔" وہ شخص بولا آپ مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ایک نشانی یہ ہے کہ لوٹنڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ دوسرا نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا

نگے پیر والے، نگے جسم والے، فقیر بکریوں کو چرانے والے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں  
خیریہ طور پر بنائیں گے۔ ”راوی نے کہا: پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں بڑی دیر تک ٹھہر ا رہا۔  
اس کے بعد آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عمر! ایسا تم جانتے ہو؟ یہ پوچھنے والا کون  
تھا؟“ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جریل  
علیہ السلام تھے جو تمہیں، تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“

Umar bin khattab (رض) se riwayat hai: ham ek roz Allah ke rasool (صلی اللہ علیہ وسلم) ke paas baithe hue the ke ek aadmi aaya jiska libaas nihaayat hi safed aur uske baal nihaayat hi siyaah the. Uspar safar ke aasaar dikhai nahi derahe the, na ham me se koi use pahchaanta tha, yahaatak ke wo nabi (صلی اللہ علیہ وسلم) ke qareeb do zaanu hokar baith gaya ke usne apne ghotne aap ke ghotno se mila diye aur apne haath aap kee zaanuo par rakh diye aur kaha: aye Muhammad (صلی اللہ علیہ وسلم) mujhe islam ke baare me batayye. Rasool (صلی اللہ علیہ وسلم) ne farmaya: islam ye hai ke tu gawahi de ke Allah ke siwa koi ma'boode barhaq nahi aur ye ke Muhammad (صلی اللہ علیہ وسلم) Allah ke rasool hain. Aur ye ke tu namaz qaem kare, zakaat ada kare, ramazan ke roze rakhe aur baitullah tak pahunchne ki istita'at ho to baitullah ka haj kare. Us shakhs ne kaha: aap ne sach

farmaya. Hamein ta'ajjub hua ke khud hi sawaal karta hai aur phir tasdeeq bhi karta hai. Us shakhs ne kaha: mujhe eemaan ke baare me batayye. Rasool (ﷺ) ne farmaya: eemaan ye hai ke tu eemaan laae Allah par, uske farishto par, uski kitabo par, uske rasoolo par, aakhirat ke din par aur achi aur buri taqdeer par. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Us shakhs ne kaha mujhe ehsaan ke baare me batayye. Rasool (ﷺ) ne farmaya: ehsaan ye hai ke tu ibadat is tarah se kare goya tu Allah ko dekh raha hai, pas agar tu ye na karsake to teri ibadat is tarah honi chahiye ke Allah tujhe dekh raha hai. Us shakhs ne kaha ke qayamat ke baare me batayye. Rasool (ﷺ) ne farmaya: jisse sawal kiya gaya hai wo is baare me sawaal karne waale se zyaada nahi jaanta. Us shakhs ne kaha: to mujhe uski nishaniyo ke baare me hi bata dijiye. Rasool (ﷺ) ne farmaya: ye ke laundi apne maalik ko janegi aur tu dekhega ke nange paaon waale, nange badan waale, muflis charwaahen buland imaaratein ta'meer karne me ek doosre par fakhar karenge. Phir wo shakhs chala gaya. Mai rasool (ﷺ) ke paas thodi der

thaira raha. Phir rasool (ﷺ) ne farmaya: wo Jibreel the,  
jo tumhe deen sikhaane ke liye tumhare paas aae the.

Hadis:43



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.3

((عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَيَعْتَرِفُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بُنْيَ الْإِسْلَامُ  
عَلَى خَمْسٍ: شَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ  
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحِجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ")  
رَوَاهُ الحَجَارِيُّ وَفِيلَمُ

(صحیح بخاری: 81 و صحیح مسلم: 16)

On the authority of Abdullah, the son of Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him), who said: I heard the Messenger of Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) say, "Islam has been built on five [pillars]: testifying that there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, establishing the salah (prayer), paying the zakat (obligatory charity), making the hajj (pilgrimage) to the House, and fasting in Ramadhan." [Bukhari & Muslim]

ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ اركان (ستونوں) پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں اور پیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں اور نماز (صلوة) قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان بھر روزے رکھنا۔"

Abu abdir rahman Abdullah bin Umar bin khattab ﷺ se riwayat hai ke Rasoolullah(ﷺ) ne farmaya: Islam ki bunyaad panch 5) cheezon par hai. Is baat ki gawahi dena ke Allah ke siwa koi ma'boode barhaq nahi aur yaqeenan Muhammad (ﷺ) Allah ke Rasool hain, namaz qaem karna, Zakat ada karna, Hajj karna aur Ramazan ke roze rakhna. Sahih Bukhari, Sahih Muslim)

Hadis:44



ASKISLAMPEDIA  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.4

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْعَلُ خُلُقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَزْبَعِينَ يَوْمًا نُظْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: إِنَّكَتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجْلِيهُ، وَأَعْبِلُهُ، وَشَقِّي أَمْرَ سَعِيدٍ؛ فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلَ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْدُخْلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَنْدُخْلُهَا)) رواه البخاري ومسلم))

(صحیح بخاری: 3208 و صحیح مسلم: 2643)

On the authority of Abdullah ibn Masood (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah ﷺ, and he is the truthful, the believed, narrated to us, “Verily the creation of each one of you is brought together in his mother’s womb for forty days in the form of a nutfah (a drop), then he becomes an alaqah (clot of blood) for a like

period, then a mudghah (morsel of flesh) for a like period, then there is sent to him the angel who blows his soul into him and who is commanded with four matters: to write down his rizq (sustenance), his life span, his actions, and whether he will be happy or unhappy (i.e., whether or not he will enter Paradise). By the One, other than Whom there is no deity, verily one of you performs the actions of the people of Paradise until there is but an arms length between him and it, and that which has been written overtakes him, and so he acts with the actions of the people of the Hellfire and thus enters it; and verily one of you performs the actions of the people of the Hellfire, until there is but an arms length between him and it, and that which has been written overtakes him and so he acts with the actions of the people of Paradise and thus he enters it.” [Bukhari & Muslim]

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور آپ کی بات کو سچا مانا جاتا ہے) بیان فرمایا کہ: ”تم میں سے ہر کوئی اپنے ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک جنم ہوئے خون کے شکل میں رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک

مضغہ (گوشت کے لوٹھڑے) کی شکل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا اور روح پھونگی جاتی ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے جیسے اس کا رزق، اس کی موت کا وقت اور عمل اور یہ کہ بد ہے یا نیک۔ سوال اللہ کی قسم اسکے علاوہ کوئی معبدود برحق نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص زندگی بھر نیک کرتا جنتیوں کے نیک اعمال کی طرح اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دینے کے سبب وہ نتیجہ میں جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح تم میں سے ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے اور جنت والوں کے کام کرنے کی وجہ سے نتیجہ میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔"

Abu Abdur Rahman Abdullah Ibne Masood(رضی اللہ عنہ) ne kaha: ham Rasoolullah (صلی اللہ علیہ وسلم) se suna – aur wo Sadiq wa Masdooq hain – farmaya: Tum mein se har ek apni maa ke pet me chalees din tak nutfe ki shakal me rahta hai. Phir chalees din jame hue khoon ke manind hota hai. Phir agle chalees din gosht ki boti ke maanind rahta hai. Phir Allah uski taraf ek farishta bhejta hai, wo usme rooh phoonkta hai

aur us farishte ko chaar batein likhne ka hukum diya jaata hai. Us shakhs ke rizq likhne ka aur uski maut ka waqt, aur uske amal ka aur is baat ka ke wo badbakht hai ya khushnaseeb. Pas qasam hai us zaat ki jiska koi shareek nahi, tum me se koi ahle jannat ke se a'maal karta rahta hai yaha tak ke uske aur jannat ke darmiyaan ek haath ka faasla rah jaata hai, phir taqdeer ka likha us par sabaqat le jaata hai aur ahle jahannam ke se a'maal karne lag jaata hai chunaanche wo us me daakhil kardiya jaata hai. Aur tum me se koi ahle jahannam ke se a'maal karta rahta hai yaha tak ke uske aur jahannam ke darmiyaan ek haath ka faasla rah jaata hai, phir taqdeer ka likha us par sabaqat lejaata hai to wo ahle jannat ke se a'maal karne lag jaata hai aur wo usme daakhil ho jaata hai.

 Hadis:45


## Hadis No.5

((عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))  
 رواة البخاري وMuslim  
 ((وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))  
 صحیح بخاری: 3208 و صحیح مسلم: 1718)

On the authority of the mother of the faithful, Aisha (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) said, “He who innovates something in this matter of ours (i.e., Islam) that is not of it will have it rejected (by Allah).” [Bukhari & Muslim] In another version in Muslim it reads: “He who does an act which we have not commanded, will have it rejected (by Allah).”

ام المؤمنین عائشہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ قابل رد ہے۔“ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ: جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا فیصلہ نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔

Ummul Mumineen Ayesha (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) se riwayat hai ke Rasoolullah (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ne farmaya: jis ne Hamare is amr

yaani deen-e-islam) me koi nai baat nikaali jo is me na ho  
to wo mardood naa-qabil-e-qabool) hai. Sahih Bukhari,  
Sahih Muslim)

Hadis:46



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.6

((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعَمَّانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقُدِّمَ أَسْتَبْرَ الْدِينِ وَعِزْضُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجِنَّى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّ، أَلَا وَإِنَّ حَمَّ اللَّهَ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلُبُ)) رواه البخاري ومسلم  
 (صحیح بخاری: 52۔ و مسلم: 1599)

On the authority of an-Nu'man ibn Basheer (may Allah be pleased with him), who said:I heard the Messenger of Allah (صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِ) say, “That which is lawful is clear and that which is unlawful is clear, and between the two of them are doubtful matters about which many people do not know. Thus he who avoids doubtful matters clears himself in regard to his religion and his honor, but he who falls into doubtful matters [eventually] falls into that which is unlawful, like the shepherd who pastures around a sanctuary, all but grazing

therein. Truly every king has a sanctuary, and truly Allah's sanctuary is His prohibitions. Truly in the body there is a morsel of flesh, which, if it be whole, all the body is whole, and which, if it is diseased, all of [the body] is diseased. Truly, it is the heart." [Bukhari & Muslim]

ابو عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنًا: "بے شک حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض امور و معاملات شبہ والے ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پھر جو کوئی نیچے لگایا شہبہ کی چیزوں سے بھی، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو کوئی ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا دراصل وہ حرام میں پڑ گیا اس کی مثال اس چروالی ہے کی ہے جو چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور کو چڑائے۔ قریب ہے کہ وہ جانور کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے، سن لو! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ (حد بندی) ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ (حدود) حرام کر دہ چیزیں ہیں۔ خبردار رہو! جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو گا تو سارا جسم درست ہو گا اور جب وہ بگڑا، سارا جسم بگڑ جائے گا۔ خبردار رہو! وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔

Abu Abdullah No'maan bin Basheer (رضی اللہ عنہ) se riwayat hai ke Maine Rasoolullah (صلی اللہ علیہ وسلم) se suna, aap ne farmaya: beshak halaal zahir hai aur haraam bhi zahir hai aur un dono ke darmiyaan shubhe waali chizein hain jinhe bohat se log nahi jaante. Pas jo in mushtaba chizo se bach gaya usne apne

deen auraabru ko bacha liya aur jo mushtaba umoor me pad gaya wo haraam me pad gaya. Iski misaal us charwaah jaisi hai jo apne rewad ko charah-gaah ki baad ke saath charaata hai, qareeb hai ke rewad us me daakhil ho kar charne lag jaae. Khabar-daar beshak har baadshah ki ek hifazati had hoti hai, khabar-daar Allah ki had uski haraam karda ashyaan hain. Khabar-daar yaqeenan jism me gosht ka ek tukda hai jo agar durust hojaae to saara jism durust hojataa hai aur agar us me fasaad barpa hojaae to saare jism me fasaad barpa hojataa hai. Aagaah raho wo tukda dil hai.

Hadis:47

ASKISLAMPEDIA  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.7

((عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ يَلَهُ، وَلِكُتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَعْبَدَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ") رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(صحیح مسلم: 55)

On the authority of Tameem ibn Aus ad-Daree (may Allah be pleased with him): The Prophet (صلی اللہ علیہ وسلم) said, “The deen (religion) is naseehah (advice, sincerity).” We said, “To whom?” He said (صلی اللہ علیہ وسلم), “To Allah, His Book, His Messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk.” [Muslim]

سیدنا ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین خیر خواہی اور بھلائی چاہئے (سچی نصیحت) کا نام ہے۔۔۔ ہم نے کہا: کس کی خیر خواہی اور بھلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے حاکموں کی اور سب مسلمانوں کی۔۔۔“

Abu Ruqayya Tamim bin Aus Daari (صلی اللہ علیہ وسلم) se riwayat hai ke Rasoolullah (صلی اللہ علیہ وسلم) ne farmaya: Deen khair-khwaahi ka naam hai. Kaha gaya: kis ki khair-khwaahi? farmaaya:

Allah ki aur us ki Kitaab ki aur us ke Rasool ki aur Musalmaano ke aimma ki aur aam musalmano ki.

Hadis:48



Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.8

((عَنْ أُبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. وَيُؤْكِلُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى )) زوْلَ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ

( صحیح بناری: 25، و صحیح مسلم: 22)

On the authority of Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him): The Messenger of Allah ﷺ said, “I have been ordered to fight against the people until they testify that there is none worthy of worship except Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, and until they establish the salah and pay the zakat. And if they do that then they will have gained protection from me for their lives and property, unless [they commit acts that are punishable] in Islam, and their reckoning will be with Allah.” [Bukhari & Muslim]

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ کی

طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قاتل کروں جب تک کہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جب وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے حق کے (رہاں کے دل کا معاملہ تو) ان کا حساب، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔

Ibne Umar (رضی اللہ عنہ) se riwayat hai ke Rasoolullah (صلی اللہ علیہ وسلم) ne farmaya: Mujhe hukum diya gaya hai ke mai logo se ladaee karoo hatta ke wo gawahi dein ke Allah ke siwa koi ma'boode barhaq nahi aur beshak Muhammad (صلی اللہ علیہ وسلم) Allah ke rasool hain, namaz qaem karein aur zakat ada karein jab wo ye a'maal karne lagein to unho ne mujh se apne khoon aur apne maal islam ke haq ke saath mahfooz karliye aur unke a'maal ka hisaab Allah ke zimme hai.

Hadis:49



## Hadis No.8

((عَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ صَحَّحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرَيْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةً مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أُنْبِيَاءِهِمْ") رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  
 (صحیح بخاری: 7288، و صحیح مسلم: 1337)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him): I heard the Messenger of Allah (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) say, “What I have forbidden for you, avoid. What I have ordered you [to do], do as much of it as you can. For verily, it was only the excessive questioning and their disagreeing with their Prophets that destroyed [the nations] who were before you.” [Bukhari & Muslim]

ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر صَحَّحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا: ”میں جس سے تم کو منع کر دوں اس سے دور رہو اور پکو، اور جو بھی حکم دوں اس کو پورا کرو جتنا تم سے ہو سکے، کیوں کہ تم سے پہلے لوگ کو جس نے تباہ کیا وہ ہے، انکا کثرت سے سوالات کرنا اور اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنا۔“

Abu Hurairah Abdur Rahman ibne Saqr (صَحَّحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) se riwayat

hai: Main Rasoolullah ﷺ ko farmate hue suna: jis cheez se maine tumhe mana kardiya hai osse bacho aur jis cheez ka maine hukum diya hai, jaha tak taaqat ho use baja laao. Beshak tum se pahle log isi waja se halaak hue ke unho ne bohat zyada sawal kiye aur apne ambiya ke baare me ikhtilaaf kiye.

Hadis:50



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.9

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمِلُوا صَالِحًا، وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدُدُ دِيْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَظْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ، وَعُذْدَيِ الْحَرَامِ، فَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَهُ؟)) رواه مسلم

(صحیح مسلم: 1015)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him): The Messenger of Allah (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ) said, “Allah the Almighty is Good and accepts only that which is good. And verily Allah has commanded the believers to do that which He has commanded the Messengers. So the Almighty has said: “O (you) Messengers! Eat of the tayyibat [all kinds of halal (legal) foods], and perform righteous deeds.” [23:51] and the Almighty has said: “O you who believe! Eat of the lawful things that We have provided you.” [2:172]” Then he

(عليه السلام) mentioned [the case] of a man who, having journeyed far, is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying "O Lord! O Lord!" while his food is haram (unlawful), his drink is haram, his clothing is haram, and he has been nourished with haram, so how can [his supplication] be answered? [Muslim]

سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن حنبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو انہیں باقتوں کا حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا اور فرمایا: "اے رسولو! کھاؤ پاکیزہ اشیاء اور نیک عمل کرو،۔ اور فرمایا: "اے ایمان والو! کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی۔" ، پھر آپ ﷺ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو کہ لمبا سفر کر کے آتا ہے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اور پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے پھر اس کی دعا کیوں نکل قبول ہو۔"

Abu Hurairah (عليه السلام) se riwayat hai ke Rasoolullah (عليه السلام) ne farmaya: beshak Allah Ta'ala paak hai aur paak cheez ke alaawa wo kuch qabool nahi karta. Aur Allah ta'ala ne ahle eemaan ko wahi hukum diya jo apne rasoolo ko diya. Allah ta'ala ka farmaan hai: aye mere rasoolo! Pakkeza

chizein khaao, ache a'maal karo. Aur Allah ta'ala ne farmaya: aye logo jo eemaan lae ho hamare ata karda pakiza chizo se khaao. Phir us aadmi ka zikr farmaya jo taweel safar tae karke aata hai jo gard-o-ghubaar se ata hua hai aur apne dono haath aasmaan ki taraf utha kar pukaarta hai "aye mere rab! Aye mere rab! Aur uska khaana haraam hai aur uska peena haraam hai, uska libaas haraam hai aur haraam me paala gaya hai, phir uski dua kaise qabool ho?

Hadis:51



**ASKISLAMEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.10

((عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِحَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دُعَ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ") حَدِيثٌ صَحِيحٌ  
 (جامع الترمذى: 2520، وَقَالَ الرَّزِيمِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) - وَسَنْ  
 النَّسَائِيُّ: 5711 - وَصَحِحَ البَانِيُّ فِي صحيح الجامع: 3378)

On the authority of Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abee Talib (may Allah be pleased with him), the grandson of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), and the one much loved by him, who said: I memorised from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): “Leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt.”<sup>ha</sup>

[At-Tirmidhi] [An-Nasai]

ابو محمد حسن بن علي بن طالب ؓ پروردگار رسول اللہ ﷺ کے نواسہ اور خوبصورت اور خوشبودار پھول ہیں، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان یاد رکھا ہے کہ: ”ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک اور تہجیبی میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔

Nawaasa aur khushbue rasool abu muhammad Hasan Ibne Ali bin abi talib (رضي الله عنهما) se riwayat hai ke: Maine Rasoolullah (صلوات الله عليه وسلم) se sun kar hifz kar liye: us cheez ko chod de jo tujhe shak me daalti hai, us cheez ki taraf jo tujhe shak me nahi daalti.

Hadis:52



ASKISLAMPEDIA  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.11

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ) حَدِيثٌ صَحِيحٌ

(جامع الترمذ: 2318، ابن ماج: 3976—صحح الالبانى فى صحیح الجامع: 5911)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) who said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said, “Part of the perfection of one’s Islam is his leaving that which does not concern him.” A hasan (good) hadeeth which was related by at-Tirmidhi and others in this fashion.

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔“

Abu Hurairah (رضی اللہ عنہ) se riwayat hai ke Rasoolullah (صلی اللہ علیہ وسلم) ne farmaya: Aadmi ke islam ki achayyo me se ye bhi hai ke wo be faida umoor ko chod de.

Hadis:53



## Hadis No.12

((عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَئْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَدِيرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ") رواه البخاري ومسلم  
 (صحیح بخاری: 13۔ و صحیح مسلم: 45)

On the authority of Abu Hamzah Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) — the servant of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) — that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you [truly] believes until he loves for his brother that which he loves for himself. [Al-Bukhari] [Muslim]


Free Online Islamic Encyclopedia

رسول اللہ ﷺ کے خادما ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہو۔"

Abu Hamza Anas bin Malik (رضی اللہ عنہ) se riwayat hai ke

rasoolullah (ﷺ) ne farmaya us waqt tak koi shakhs kaamil momin nahi hosakta jab tak wo wahi cheez apne muslim bhai ke liye bhi pasand na kare jo wo apne liye pasand karta hai.

Hadis:54



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.13


((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُقْرِنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمُّثُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ") رَوَاهُ البَجَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

(صحیح بخاری: 6018۔ و صحیح مسلم: 47)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Let him who believes in Allah and the Last Day speak good, or keep silent; and let him who believes in Allah and the Last Day be generous to his neighbour; and let him who believes in Allah and the Last Day be generous to his guest. [Al-Bukhari] [Muslim]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانتا (قولیت والی تصدیق) ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانتا (قولیت والی تصدیق) ہو تو اپنے پڑوسی کی عزت و اکرام کرے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانتا (قولیت والی تصدیق) ہو تو وہ اپنے "مہمان کی عزت و اکرام کرے"

Abu Huraira (رضي الله عنه) se riwayat hai ke rasoolullah (صلوات الله عليه وآله وسليمه) ne farmaya: jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai use chahiye ke achi baat kahe ya khamoosh rahe, aur jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai use chahiye ko wo apne hamsaae ki izzat wa takreem kare, aur jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai use chahiye ko wo mahmaan ki izzat wa takreem kare.


 Hadis:55

**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.14

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ أَوْصِنِي .  
قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ)) رواه البخاري  
(صحیح البخاری: 6116)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him): A man said to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), "Counsel me," so he (peace and blessings of Allah be upon him) said, "Do not become angry." The man repeated [his request for counsel] several times, and [each time] he (peace and blessings of Allah be upon him) said, "Do not become angry." [Al-Bukhari]

Free Online Islamic Encyclopedia

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی وصیت (اہم نصیحت) فرمادیجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "غصہ نہ کر۔" انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "غصہ نہ کر۔"

Abu Hurairah (صلی اللہ علیہ وسلم) se riwayat hai ke nabi (صلی اللہ علیہ وسلم) ke

paas ek aadmi aaya aur usne kaha: aye nabi mujhe kuch nasihat kijiye. Aap ne farmaya: ghussa na kiya karo. Usne yahi sawal kaee baar dohraaya, aap ne har dafa yahi farmaya: ghussa na kiya kar.

Hadis:56



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

Hadis No.15

((عَنْ أَبِي ذَرٍ جُنْدِبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ هَيْثُمًا كُنْتَ،  
 وَاتَّبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقُ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ")  
 حَدِيثُ حَسَنٍ

(جامع الترمذى: 1987 - وحسن الالباني في صحيح البخارى: 97)


On the authority of Abu Dharr Jundub ibn Junadah, and Abu Abdur-Rahman Muadh bin Jabal (may Allah be pleased with him), that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Have taqwa (fear) of Allah wherever you may be, and follow up a bad deed with a good deed which will wipe it out, and behave well towards the people. It was related by at-Tirmidhi, who said it was a hasan (good) hadeeth, and in some copies it is stated to be a hasan saheeh hadeeth.

ابوذر جندب بن جنادة اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل پڑھتا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو حسن اخلاق کے ساتھ۔"

Abu Zar Jundub bin Junaada aur Abdur Rahman Mua'az bin

Jabal (جبل) se riwayat hai ke Rasoolullah (صلوات الله عليه وسلم) ne farmaya: tum jaha kahee bhi ho Allah se darte raho aur buraee par neki karo wo buraee ko mita degi aur logo ke saath husne akhlaaq ke saath pesh aao.

Hadis:57



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.16

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامًا إِنِّي أُعْلِمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجْدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْنَاهُ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتُ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّ الصُّحْفُ)) حَدِيثٌ صَحِيحٌ

(جامع الترمذى: 2516 - وصححه الالباني في صحيح الجامع: 7957)

((وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التَّرْمِذِيِّ تَحْمِيلَ اللَّهِ لَنَّكَ: احْفَظِ اللَّهَ تَجْدُهُ أَمَامَكَ، تَعْرَفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكِ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا))

On the authority of Abu Abbas Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) who said: One day I was behind the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) [riding on the same mount] and he said, “O young man, I

shall teach you some words [of advice]: Be mindful of Allah and Allah will protect you. Be mindful of Allah and you will find Him in front of you. If you ask, then ask Allah [alone]; and if you seek help, then seek help from Allah [alone]. And know that if the nation were to gather together to benefit you with anything, they would not benefit you except with what Allah had already prescribed for you. And if they were to gather together to harm you with anything, they would not harm you except with what Allah had already prescribed against you. The pens have been lifted and the pages have dried.” It was related by at-Tirmidhi, who said it was a good and sound hadeeth. Another narration, other than that of Tirmidhi, reads: Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. Recognize and acknowledge Allah in times of ease and prosperity, and He will remember you in times of adversity. And know that what has passed you by [and you have failed to attain] was not going to befall you, and what has befallen you was not going to pass you by. And know that victory comes with patience, relief with affliction, and

hardship with ease.

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری پر چیچھے تھا، آپ نے فرمایا: "اے بیٹے! میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں: تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے، (تقدیر کے) قلم اٹھا لیے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔"

ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ مردی ہیں:  
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوش حالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا اور جان لو کہ جو مصیبت تم سے خطا ہو گئی وہ تمہیں پہنچے والی ہی نہیں اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے خطا ہونے والی ہی نہیں اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے۔ اور ہر تنگی کے ساتھ کشادگی اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

Abul Abbas Abdullah bin Abbas (رضی اللہ عنہما) se riwayat hai ke ek din main rasoolullah ﷺ ke peeche khacchar par

baitha tha ke aap ne farmaya: aye ladke! Main tumhe chand batein sikhata hoon. Tum Allah ta'ala ke deen) ki hifazat karo wo tumhari hifazat karega, tum Allah ke deen) ki hifazat karo tum use apne saamne paoge aur jab bhi tum sawal karo to sirf Allah ta'ala se sawaal karo aur jab madad chaho to sirf Allah ta'ala se madad chaho, aur jaan lo ke agar sab log milkar tujhe koi faeda pahunchane ke liye jama hojaein to koi faeda nahi pahuncha sakte magar itna hi jo Allah ne tumhare liye likh rakha hai, aur agar sab log tumhein nuqsaan pahunchane ke liye jama hojaein to tumhein koi nuqsaan nahi pahuncha sakenge magar itna hi jo Allah ne tumhare liye likh rakha hai. Qalmein utha li gaein hain aur lauhe mahfooz ke) safhaat khushk ho chuke hain.

Aur ek doosri hadees me hai:

Allah ta'ala ke deen) ki hifazat karo, tum Allah ta'ala ko apne saamne paoge. Khush haali me Allah ko yaad rakho wo tumhe tangi me yaad rakhega aur jaan lo ke jo musibat tum se khata hogee wo tumhe pahunchne waali hi na thi aur jo

musibat tumhein pahunchi wo tum se khata hone waali no thi. Aur jaan lo ke madad sabar ke saath milti hai. Aur har tangi ke saath kushaadgi aur har mushkil ke saath aasaani hai.

Hadis:58



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

## Hadis No.17

((عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتُ)) رواة البخاري  
 (صحیح بخاری: 3483)

On the authority of Abu Masood Uqbah bin 'Amr al-Ansaree al-Badree (may Allah be pleased with him) who said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said, "Verily, from what was learnt by the people from the speech of the earliest prophecy is: If you feel no shame, then do as you wish." [Al-Bukhari]

Free Online Islamic Encyclopedia

ابو مسعود عقبہ بن عمر و انصاری بدربی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "لوگوں نے قدیم پیغمبروں کے کلام جو پائے اور سکھئے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر لے۔"

Abu Masood Uqba Bin Amr Ansaari Badri se riwayat hai

ke Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya: beshak pahle logo ne ambiya alaihimissalaam ke kalaam se jo kuch samjha wo bas ye tha ke jab tum me haya na rahi to jo ji chahe karte phiro.

Hadis:59



**ASKISLAMPEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia



# Free Islamic Books

[www.abmqrannotes.com](http://www.abmqrannotes.com) | [www.askislampedia.com](http://www.askislampedia.com) | [www.askmadani.com](http://www.askmadani.com)

**Shaikh Arshad Basheer Umari Madani**

Hafiz, Alim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A.;

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyderabad, TS, INDIA.

+91 92906 21633 (WhatsApp only)